

5/7/2021



*TAHA
WAW*

*SOORAT MARYAM WITH GEOMETRIC LETTERS
AND LATIN MATCHING LETTERS*



writing Arabic way {wAw} | Ziad Amer

{sUratu Maryam-19} – {xAyah:1-33} { lmi wAw Taham Taha}

(سُورَةُ مَرْيَمَ-19) - (آيَةُ: 1-33) (حلم واو طهم طه)

أنقر باليمين واستمع لعبد الباسط - Cliquez droite et écoutez - Right click and listen

أنقر باليمين واستمع للشحات - Cliquez droite et écoutez Shahat - Right click and listen Shahat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

bismi -llAhi -rracmAni -rracImi

bismi -llAhi -rracmAni -rracImi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعَتِنَ (1)

k~hyq~S~ (1)

k~hyq~S~ (1)

كَهَيْعَتِنَ (1)

كَهَيْعَتِنَ (1)

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا (2)

Pikru racmaRi rabbika qabdahu zakariyyA~ (2)

dhikru racmati rabbika qabdahu zakariyyA~ (2)

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا (2)
ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا (2)

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَوْفِيًّا (3)

xiP nAdA rabbahu nidA~xL CafiyLA (3)

xidh nAdA rabbahu nidA~xan khafiyyanA (3)

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَوْفِيًّا (3)

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَوْفِيًّا (3)

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

KAla rabbi xinnI wahana -lqaZmu minnI

KAla rabbi xinnI wahana -lqaDhmu minnI

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

wa -Ftaqala -rraxsu FaybLA

wa -shtaqala -rraxsu shaybanA

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا

KAla rabbi xanna yakUnu II QulamM wa kAnat -mrxatI qAkirLA

KAla rabbi xanna yakUnu II ghulamun wa kAnat -mrxatI qAkiranA

قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا
قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا

وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتْيًا (8)

wa Kad balaQtu min -lkibari qitiyyLA (8)

wa Kad balaghtu min -lkibari qitiyyanA (8)

(8) قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا
(8) قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

KAla kaPALika KAla rabbuka huwa qalayya hayyinM

KAla kadhAlika KAla rabbuka huwa qalayya hayyinun

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ
قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9)

waKad CalaKtuka min Kablu walam taku FayxLA (9)

waKad khalaKtuka min Kablu walam taku shayxanA (9)

(9) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ
(9) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

KAla rabbi -jqal II~ xAyaRL

KAla rabbi -jqal II~ xAyatan

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ

KAla xAyatuka xalla tukallima -nnAsa

KAla xAyatuka xalla tukallima -nnAsa

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10)

BalABa layAlL sawiyyLA (10)

thalAtha layAlin sawiyyanA (10)

(10) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
(10) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَخْرَابِ

faCaraja qalA Kawmihi mina -ImicrAbi

fakharaja qalA Kawmihi mina -ImicrAbi

fakharaja qalA Kawmihi mina -ImicrAbi

faCaraja qalA Kawmihi mina -ImicrAbi

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11)

faxawcA~ xilayhim xan sabbicU bukraRL wa qaFiyyLA (11)

faxawcA~ xilayhim xan sabbicU bukratan wa qashiyyanA (11)

faxawcA~ xilayhim xan sabbicU bukratan wa qashiyyanA (11)

faxawcA~ xilayhim xan sabbicU bukratan wa qashiyyanA (11)

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْأُكْمَ صَبِيًّا (12)

yA yacyA CuPi -lkitAba biKuwwaRN wa xAtaynahu -lcukma SabiyyLA (12)

yA yacyA khudhi -lkitAba biKuwwatin wa xAtaynahu -lcukma SabiyyanA (12)

yA yacyA khudhi -lkitAba biKuwwatin wa xAtaynahu -lcukma SabiyyanA (12)

yA yacyA khudhi -lkitAba biKuwwatin wa xAtaynahu -lcukma SabiyyanA (12)

وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13)

wa canAnLA min ladunnaA wa zakARL wa kAna taKIyyLA (13)

wa canAnanA min ladunnaA wa zakA tan wa kAna taKIyyanA (13)

wa canAnanA min ladunnaA wa zakA tan wa kAna taKIyyanA (13)

wa canAnanA min ladunnaA wa zakA tan wa kAna taKIyyanA (13)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

wa barrLA biwAlidayhi

wa barranA biwAlidayhi

wa barranA biwAlidayhi

wa barranA biwAlidayhi

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14)

walam yakun jabbArLA qaSiyyLA (14)

walam yakun jabbAranA qaSiyyanA (14)

walam yakun jabbAranA qaSiyyanA (14)

walam yakun jabbAranA qaSiyyanA (14)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

wa salAmM qalayhi yawma wulida

wa salAmun qalayhi yawma wulida

wa salAmun qalayhi yawma wulida

wa salAmun qalayhi yawma wulida

وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15)

wa yawma yamUtu wa yawma yubqabu cayyLA (15)

wa yawma yamUtu wa yawma yubqathu cayyanA (15)

ⲛ= ⲛⲓ=ⲛⲟ= ⲛⲓ=ⲟⲓⲧⲥ ⲛ= ⲛⲓ=ⲛⲟ= ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (15)

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (15)

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ

wa -Pkur fi -lktAbi maryama

wa -dhkur fi -lktAbi maryama

ⲛ= ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ

إِذْ انْتَبَهَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16)

xiPi -ntabaPat min xahlihA makAnLA FarKiyyLA (16)

xidhi -ntabadhat min xahlihA makAnanA sharKiyyanA (16)

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (16)

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (16)

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا

fa -ttaCaPat min dUnihim cijAbLA

fa -ttakhadhat min dUnihim cijAbanA

ⲛ= ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

fa xarsalnA~ xilayhA rUcanA

fa xarsaln~ xilayhA rUcanA

ⲛ= ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17)

fa tamaBBla lahA baFarLA sawiyyLA (17)

fa tamaththala lahA basharanA sawiyyanA (17)

ⲛ= ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (17)

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (17)

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18)

KAlat xinnI~ xaqUPu bi -rracmAni minka xin kunta taKiyyLA (18)

KAlat xinnI~ xaqUdhu bi -rracmAni minka xin kunta taKiyyanA (18)

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (18)

ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ ⲛⲓⲧⲥⲓⲧⲟⲩⲧⲓ (18)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19)

KAla xinnamA ~ xanA rasUlu rabbiki li xahaba laki QulAmLA zakiyyLA (19)

KAla xinnamA ~ xanA rasUlu rabbiki li xahaba laki ghulAmanA zakiyyanA (19)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19)
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19)

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ

KAlat xannA yakUnu li QulAmM

KAlat xannA yakUnu li ghulAmun

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ

وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا (20)

wa lam yamsasni baFarM wa lam xaku baQiyyLA (20)

wa lam yamsasni basharun wa lam xaku baghiyyanA (20)

وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا (20)
وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا (20)

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

KAla kaPAlika KAla rabbuki huwa qalayya hayyinM

KAla kadhAlika KAla rabbuki huwa qalayya hayyinun

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ
قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا

wa linajqalahu ~ xAyaRL li -nnAsi wa racmaRL minna

wa linajqalahu ~ xAyatan li -nnAsi wa racmatan minna

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (21)

wa kAna xamrLA maKdiyyLA (21)

wa kAna xamranA maKdiyyanA (21)

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (21)
وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (21)

فَحَمَلْنَاهُ فَاَنْتَبِذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22)

facamalathu fa -ntabaPat bihi makanLA KaSiyyLA (22)

facamalathu fa -ntabadhat bihi makananA KaSiyyanA (22)

فَحَمَلْنَاهُ فَاَنْتَبِذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22)
فَحَمَلْنَاهُ فَاَنْتَبِذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22)

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ

fa xajA~xahA -lmaCADu xilA j iPqi -nnaClati

fa xajA~xahA -lmakhADu xilA jidhqi -nnakhlati

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ = د = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مَثٌ قَبْلَ هَذَا

KAlat yA laytanI mittu Kabla hAPA

KAlat yA laytanI mittu Kabla hAdhA

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا (23)

wa kuntu nasyLA mansiyyLA (23)

wa kuntu nasyanA mansiyyanA (23)

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي

fa nAdAhA min tactihA~ xallA taczanI

fa nAdAhA min tactihA~ xallA taczanI

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا (24)

Kad jaqala rabbuki tactaki sariyyLA (24)

Kad jaqala rabbuki tactaki sariyyanA (24)

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

wa huzzI~ xilayki bi jiPqi -nnaClati

wa huzzI~ xilayki bi jidhqi -nnakhlati

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

تَسَاقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا (25)

tusAKit qalayki ruTabLA janiyyLA (25)

tusAKit qalayki ruTabanA janiyyanA (25)

هـ = ع = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

هـ = ح = ح = ج = ب = ت = ث = د = ذ = ر = ز = س = ش = ص = ض = ط = ظ = ق = ك = غ = خ

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا

fa kulI wa -Frabi wa KarrI qaynLA

fa kulI wa -shrabI wa KarrI qaynanA

ò = 2=2L_T p = -ù=à_T p = ò = 2=2L_T 3 = 2=2L_T
1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T

فَإِمَّا تَرِينَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

fa ximmA tarayinna mina -lbaFari xacadLA fa KUII~

fa ximmA tarayinna mina -lbashari xacadanA fa KUII~

ò = 2=2L_T 1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T
6 = 2=2L_T 7 = 2=2L_T 8 = 2=2L_T 9 = 2=2L_T 10 = 2=2L_T

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

xinnI naPartu li -rracmani SawmLA

xinnI nadhartu li -rracmani SawmanA

2 = 2=2L_T 1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T
6 = 2=2L_T 7 = 2=2L_T 8 = 2=2L_T 9 = 2=2L_T 10 = 2=2L_T

قَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمِ أَنسِيًا (26)

fa lan xukallimu -lyawma xinsiyyLA (26)

fa lan xukallimu -lyawma xinsiyyanA (26)

ò = 2=2L_T 1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T
6 = 2=2L_T 7 = 2=2L_T 8 = 2=2L_T 9 = 2=2L_T 10 = 2=2L_T

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيْلُهُ

fa xtat bihi KawmahA tacmiluhu

fa xtat bihi KawmahA tacmiluhu

ò = 2=2L_T 1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T
6 = 2=2L_T 7 = 2=2L_T 8 = 2=2L_T 9 = 2=2L_T 10 = 2=2L_T

قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27)

KAIU yA maryamu laKad jixti FayxLA fariyyLA (27)

KAIU yA maryamu laKad jixti shayxanA fariyyanA (27)

ò = 2=2L_T 1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T
6 = 2=2L_T 7 = 2=2L_T 8 = 2=2L_T 9 = 2=2L_T 10 = 2=2L_T

يَا أُخْتُ هَارُونَ

yA~ xuCta hArUna

yA~ xukhta hArUna

1 = 2=2L_T 2 = 2=2L_T 3 = 2=2L_T 4 = 2=2L_T 5 = 2=2L_T
6 = 2=2L_T 7 = 2=2L_T 8 = 2=2L_T 9 = 2=2L_T 10 = 2=2L_T

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31)

wa xawSanI bi -SSalARi wa -zzakARi mA dumtu cayyLA (31)

wa xawSanI bi -SSalAti wa -zzakAti mA dumtu cayyanA (31)

wa xawSanI bi -SSalARi wa -zzakARi mA dumtu cayyLA (31)

wa xawSanI bi -SSalAti wa -zzakAti mA dumtu cayyanA (31)

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32)

wa barrLA bi wAlidatI wa lam yajqalnI jabbarLA FaKiyyLA (32)

wa barranA bi wAlidatI wa lam yajqalnI jabbArana shaKiyyanA (32)

wa barranA bi wAlidatI wa lam yajqalnI jabbArana shaKiyyanA (32)

wa barranA bi wAlidatI wa lam yajqalnI jabbArana shaKiyyanA (32)

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

wa -ssalAmu qalayya yawma wulidtu

wa -ssalAmu qalayya yawma wulidtu

wa -ssalAmu qalayya yawma wulidtu

wa -ssalAmu qalayya yawma wulidtu

وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33)

wa yawma xamUtu wa yawma xubqaBu cayyLA (33)

wa yawma xamUtu wa yawma xubqathu cayyanA (33)

wa yawma xamUtu wa yawma xubqathu cayyanA (33)

wa yawma xamUtu wa yawma xubqathu cayyanA (33)

التنوين والمدة: لا يلفظ التنوين في آخر الإسم عند الوقف. وقد يلفظ تنوين الفتح كمد فتح عند الوقف كما في (غدا > غدا) إلا إذا كان الحرف الأخير تاء مربوطة فتلفظ هاء ساكنة (وردة > وردة). كما تضاف المدة بعد حروف العلة الطويلة (المدود) إذا جاءت قبل حرف همزة أو حرف ساكن أو ظهرت في أول آية مكونة من بضعة حروف.

Tanween and Maddah: All Tanweens are not pronounced at the end of the nouns at stops except Tanween Fath which may be pronounced as Mad Fath {daman > damA}, unless the last letter is a tied taa, then it is pronounced as a static haa (wardatan > wardah). A Maddah is also added after a long vowel (Mad) if it comes before a Hamzah or a static letter.

Tanween et Maddah: All Tanweens ne sont pas prononcés à la fin des noms aux arrêts sauf Tanween Fath qui peut être prononcé comme Mad Fath {daman > damA}, à moins que la dernière lettre ne soit un taa lié, alors il est prononcé comme un haa statique (wardatan > wardah). Une Maddah est également ajoutée après une longue voyelle (Mad) si elle vient avant un Hamzah ou une lettre statique.